



## قومی خواتین کرکٹرز کے ہائی پرفارمنس کیمپ کا آغاز 16 اگست سے ہوگا

- کیمپ کے دوران قومی خواتین کرکٹرز ایک روز ملٹری اکیڈمی کاکول میں گزاریں گی، چیف سلیکٹر عروج ممتاز

لاہور، 9 اگست 2019ء:

30 خواتین کرکٹرز پر مشتمل ہائی پرفارمنس کیمپ 16 اگست بروز جمعہ سے شروع ہوگا۔ 16 روزہ کیمپ 31 اگست تک جاری رہے گا۔

کیمپ کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی نے کیا ہے۔ عروج ممتاز کی سربراہی میں کام کرنے والی 3 رکنی کمیٹی میں اسماویہ اقبال اور مرینہ اقبال شامل ہیں۔ کیمپ کا مقصد قومی خواتین کھلاڑیوں کو آئندہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل سیزن کے لیے تیار کرنا ہے۔ قومی خواتین کرکٹ ٹیم کو بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے ساتھ ساتھ آئندہ سال آسٹریلیا میں شیڈول آئی سی سی ویمن ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈکپ میں شرکت کرنی ہے۔ اکتوبر میں قومی خواتین اے کرکٹ ٹیم کے دورہ سری لنکا کے انتخاب کی غرض سے جونیر کھلاڑیوں کو بھی ہائی پرفارمنس کیمپ میں طلب کیا گیا ہے۔

قومی خواتین کرکٹرز پر مشتمل ہائی پرفارمنس کیمپ سینئر اور اے کرکٹ ٹیموں کی تیاریوں کے سلسلے میں کوچز کی رہنمائی کرے گا۔ کیمپ خواتین کرکٹ کی فروغ کے لیے پی سی بی کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔

کیمپ کے دوران قومی خواتین کرکٹرز 28 اگست کو کاکول ملٹری اکیڈمی جائیں گی۔

**عروج ممتاز، چیف سلیکٹر قومی خواتین کرکٹ ٹیم:**

اس موقع پر قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی چیف سلیکٹر عروج ممتاز کا کہنا ہے سیزن

کے آغاز سے قبل ہم نے 30 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے۔ عروج ممتاز نے کہا کہ ہائی پرفارمنس کیمپ کا مقصد تینوں شعبوں میں کھلاڑیوں کی کارکردگی میں بہتری لانا ہے۔ ہم نے اے کرکٹ ٹیم کے اکتوبر میں دورہ سری لنکا کی تیاریوں کے لیے ایسی جونیئر کرکٹرز کو کیمپ میں طلب کیا ہے جن کے نام بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے انتخاب کے لیے زیر غور ہیں۔

چیف سلیکٹر قومی خواتین کرکٹ ٹیم عروج ممتاز کا کہنا ہے کہ قومی خواتین کرکٹرز ملٹری اکیڈمی کاکول میں ایک مکمل دن گزاریں گی۔ جہاں وہ کیڈٹس کی طرز پر ٹریننگ کریں گی۔ جس سے ان کی سوچ میں وسعت اور حوصلہ بڑھے گا۔

عروج ممتاز کا کہنا ہے کہ کیمپ سے کوچز کو کھلاڑیوں کی شناخت میں مدد ملے گی۔ یہ کیمپ سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر قومی خواتین کرکٹ کی بلندی میں اہم کردار ادا کرے گا۔

### ہائی پرفارمنس کیمپ میں شامل کھلاڑیوں کے نام:

عالیہ ریاض، عروب شاہ، عائشہ ناز، عائشہ ظفر، بسمعہ معروف، ڈیانا بیگ، فاطمہ ثناء، حرینہ سجاد، ارم جاوید، جویریہ رؤف، جویریہ ودود، کائنات حفیظ، کائنات امتیاز، ماہم طارق، منیبہ علی، بی بی ناہیدہ، نجیبہ علوی، نشرہ سندھو، نالیہ پرویز، نداراشد، رامین شمیم، صبا نذیر، سعدیہ اقبال، ثناء میر، سدرہ امین، سدرہ نواز، سوہا فاطمہ، طوبہ حسین، عمیمہ سہیل اور وحیدہ اختر۔

### آفیشلز:

مارک کولز، ہیڈ کوچ  
اقبال امام، ہیڈ کوچ  
جمال حسین، ٹرینر  
شاہد انور، کوچ اے ٹیم  
عائشہ جلیل، منیجر  
ڈاکٹر رفعت اصغر گل، فزیو  
ساجدہ فجر، فزیو

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content  
Media and Communications  
E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)  
M: +92 (0) 345 474 3486  
W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

## ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

### Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)  
@therealpcb  
@PakistanCricketBoard  
@PakistanCricketOfficial  
@therealpcb

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4